|                                                                                                                    | 3                            |                                         |                                  | No                      | SWL                               | Annu           | al 2019, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|
| Physics                                                                                                            | لاس م الحر                   | ری پارٹ I ، ک                           | ( III ) - ( سَيَنتُه             |                         |                                   |                | فزس ٢    |
| Paper: I (Group: I)                                                                                                | ( Acade                      | mic Sess                                | sions 2018-2                     | (0)                     | (,                                | : ( پېلاگروپ   |          |
| Warks : 12                                                                                                         | 640                          | Objective                               | (معروضی)                         |                         |                                   | 1:             | نبر: ٥   |
| Fime: 15 Minutes<br>ے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائر ہ کو مارکریا پین سے بحر                                       | د منه بخرگزارگروا رملس       | Code :                                  | 5475                             | <b>D</b> . <b>D</b> . = |                                   |                |          |
|                                                                                                                    | · b                          | 171000000000000000000000000000000000000 | 1011 1001                        | 1.1.11                  | 1 . 1                             |                |          |
| Note:- You have four choices for each<br>fill that circle in front of that que<br>circles will result in zero mark | estion number. Us            | estion as A,<br>se marker o             | R C and D T                      | ha chaise               |                                   |                |          |
| 1. 1. The orbital speed of a low orbit                                                                             | satellite is                 |                                         | نے کی سپیڈ ہوتی ہے۔              | ب کی محروش کر۔          | ٹ کے سیلائٹ                       | . 1- نجاے آر:  | 1        |
| $8000ms^{-1}$ (D)                                                                                                  | $800ms^{-1}$                 | (C)                                     | 8ms <sup>-1</sup>                |                         | zero                              |                |          |
| 2. The work done in lifting a brick o                                                                              | ورک ہوگا۔ f                  | نے میں کیا گیا                          | 5 کی بلندی تک لےجا               |                         |                                   |                |          |
| mass 2kg through a height of 5r                                                                                    |                              |                                         |                                  |                         |                                   | and the second |          |
| 100 j (D)                                                                                                          | 50 j                         | (C)                                     | 10 j                             | (B)                     | 2.5 j                             | (A)            |          |
| 3. One horse power is equal to                                                                                     |                              | 686 <b>3</b> 5                          |                                  |                         | ر برابرموتا۔<br>س یاور برابرموتا۔ | 10 100         |          |
| 756 W (D)                                                                                                          | 750 W                        | (C)                                     | 746 W                            | (B)                     | 740 W                             | (A)            |          |
| 4. The co-efficients of the                                                                                        | (( '                         |                                         |                                  |                         |                                   |                |          |
| The co-efficients of linear -جـة                                                                                   | علق مساوات سے طاہر رہا جا    | كواليق هينت كا                          | والیوم میں پھیلاؤ کے             | لفي هينڪ اور            | یلادٔ کے کو ا                     | طولی کیم       |          |
| expansion and volume expansi                                                                                       | on are related by            | y the eau                               | ation                            |                         |                                   |                |          |
| $\beta = \frac{\alpha}{2}$ (D)                                                                                     |                              | (C)                                     | $\beta = 3\alpha$                | (B)                     | $\beta = \alpha$                  | (4)            |          |
| 5. In system international, the unit                                                                               |                              |                                         |                                  |                         | نزیشنل میں ینگر                   |                |          |
| $Nm^{-3}$ (D)                                                                                                      | Nm <sup>-2</sup>             | (C)                                     | Nm <sup>-1</sup>                 | موذوس کا یونٹ<br>(B)    | نزيش يمر<br>Nm                    | - Mr. 188555   |          |
| 6. Rooms are heated using gas he                                                                                   | (#///#.#.                    | 1-7                                     | ۔<br>کے جاتے ہیں۔                | N VIND ONE              |                                   | (A)<br>م       |          |
| conduction only                                                                                                    | 16.                          | (B) conv                                | ہے ہاتے ہیں۔<br>ection and radia |                         |                                   |                |          |
| convection onl                                                                                                     |                              |                                         | ection and radia                 |                         |                                   |                |          |
| 7. Global warming is due to a gas                                                                                  |                              | , ra                                    | 35                               | J. 1. 1                 | ریدی ایش<br>سر                    |                |          |
|                                                                                                                    | ida ka Cr                    |                                         |                                  |                         | وارمنگ کا سبب<br>سکست             |                |          |
|                                                                                                                    | بن مونو آکسائیڈ ide<br>کا یہ |                                         |                                  | /gen                    | _                                 |                |          |
| chlorine                                                                                                           |                              |                                         | Carbon diox                      |                         |                                   |                |          |
| 8. An utmost suitable instrument to                                                                                |                              | موزول آلدہے۔                            | معلوم کرنے کیلئے انتہاں          | انغرش ڈایا میٹر         | نبيث فيوب كا                      | 8۔ کی          |          |
| internal diameter of a test tube                                                                                   |                              | especialis                              |                                  |                         |                                   |                |          |
| vernier calliper                                                                                                   | ,                            | (B)                                     |                                  |                         | ميٹر راؤ<br>ت                     | 200.00         |          |
| screw gauge                                                                                                        | سكريو محيج                   | (D)                                     | measu                            |                         | پیاتش نیته                        | 5              |          |
| 9. A change in position is called                                                                                  | 2000 mg                      |                                         | 900                              | اتی ہے۔                 | میں حبدیلی کہا                    | 9۔ پوزیش       |          |
| distance ناصله (D) displ:                                                                                          |                              | (C) . ve                                |                                  |                         |                                   |                |          |
| 10. The rate of change of momentum                                                                                 |                              |                                         | 2                                |                         | میں تبدیلی ک                      |                | 274.1    |
|                                                                                                                    | تت time                      | , (C)                                   | mass                             | rl (B)                  | فورس force                        | (A)            |          |
| 11. Inertia depends upon                                                                                           |                              |                                         |                                  |                         | کا انحصار ہے۔                     | 11- ازشیا      |          |
| weight وزك (D)                                                                                                     | ولاحق velocity               | (C) m                                   | ass vi                           | (B) for                 | نورس pe                           | (A)            |          |
| 12. Racing cars are made stable by                                                                                 |                              |                                         | انجى                             | ، بنائی جاتی ہیں        | ، كارىس متوازن                    | 12_ رينگ       |          |
| decreasing their ma                                                                                                | ریم کرے                      | rl (B) in                               | creasing their s                 | peed                    | بپید برحاکر                       | (A)            |          |
| decreasing their width ∠ノ イ                                                                                        | D) اوڑائی (D) چوڑائی         | ng their cen                            | tre of gravity ∠                 | <u> يوځ نيچ</u> کريــ   | سنٹر آف گر                        | (C)            |          |
|                                                                                                                    |                              |                                         |                                  |                         | 00 11                             |                |          |

| Physics                                           | ری یارث I ، کلاس تم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (W) (W)                                                                             | Annuk                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Paper: I (Group<br>Marks: 48                      | ( Academic Session                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ns 2018-20 )                                                                        | : I) (پېلاگروپ)                                                |
| Time: 1: 45 Hours                                 | Subjective (نَّالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (انثا                                                                               | . : 48<br>ت : 45 : 1 گفتے                                      |
| Note: Section Lie con                             | کے جواہات کر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م میں سے کوئی سے دو (2) سوالات                                                      | ف : حسة اول لازمي هيـ حصدوه                                    |
| rote . dection 1 is con                           | npulsory. Attempt any Two question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ons from Section II.                                                                | 03 <b>€</b> 0. 19690. 19900. €                                 |
| 2                                                 | ( <u>صدادّل Section - I )</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                |
| 2. Write short answers                            | 100 miles   100 mi | ات دیجئے۔ ( 10                                                                      | ۔ کوئی سے پانچ اجزام کے تقرجوا،                                |
| guantities Give one                               | tween base quantities and derived                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | یں کیا فرق ہے؟ ہرا یک کی ایک مثال ویج                                               | اله بنیادی اور ماخوز مقدارول!                                  |
| quantities. Give one e<br>ii. Estimate 14 years a | example of each.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                |
| iii. What is meant by sign                        | nificant figures of a measurement?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نڈز میں لگاہیئے۔<br>میں میں میں میں میں ایک                                         | ii۔ 14 سال عمر کا اندازہ سی                                    |
| Give one example.                                 | and a second ineastrement?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ے کیامرادہے؟ ایک منال دیجے۔                                                         | iii- محمى يمانش ميس اجم مندسول                                 |
| <ol><li>Differentiate between</li></ol>           | Random and Linear motion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فرق مان سيحتجية                                                                     | iv ريندم اور لينير موشن ميس                                    |
| <ul> <li>V. Can a body moving a</li> </ul>        | t a constant speed have acceleration? %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا المراز الجسم مين اينساريش موسكي                                                   | Ca + + + + > > C + C                                           |
| in action and reaction                            | تو پر لولی جم فرنت سے کرتاہے! are equal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | برابر محر خالف ست میں ہوتے ہیں                                                      | vi - اگر ایکشن اور ری ایکشن                                    |
| and opposite then h                               | ow does a body move?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                |
| viii. Differentiate between                       | mentum? Write its formula. centripetal and centrifugal force.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا فارمولا ل <del>كيئ</del> ية -                                                     | vii مولیم ہے کیا مرادہ؟ اسکا                                   |
| 3. Write short answers                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | ۷۱۱۱ سینتری پیول ادر سینتری فیوگا                              |
| i. Define Neutral equilib                         | rium and give its example. $(5 \times 2 = 10)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المات و سيخير ( 0 )<br>سيس ما السيخير                                               | :۔ کوئی سے پانچ اجزاء کے مختر جو                               |
| ii. Find the vertical comp                        | رای ہے۔ اسکا عمودی کمپوٹنٹ معلوم کیجئے۔  onent of a  رای ہے۔ اسکا عمودی کمپوٹنٹ معلوم کیجئے۔  Replande of 20° باللہ کا معلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ب مینجنهٔ اور مثال دهبئے۔<br>ایکس سے احمد 20° کا زان روا ر                          | ا۔ نیوٹرل ایکوی کبریم کی تعریف<br>" 50: شرک فریس               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | mangle of 30 with X-axis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المر عامد 30 م داديد به                                                             | - X 100 2000 50 LII                                            |
| <ol> <li>State Law of Gravitation</li> </ol>      | on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن شيخة -                                                                            | iii۔ گریوی میشن کا قانون بیا                                   |
| V. What is difference but                         | vary from place to place?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وں پر مختلف کیوں ہوتی ہے؟                                                           | iv "g" کی تیت مخلف جگہ                                         |
| vi. Define work and write                         | ween artificial and natural satellites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | س میں نمیا فرق ہے؟                                                                  | ٧- مصنوعی اور قدرتی سیطل تش                                    |
| vii. How do we gain energ                         | v from air?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ر اسكا S.I يونث للطنيئة -<br>ما كار ما تا ما تا ما                                  | الا ورك كى تعريف سيجيّ اور                                     |
| viii. State the Einstein's Ma                     | ass-Energy equation and write it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ماسل کرتے ہیں؟<br>) مساوات بیان سیجئے اور اسے لکھئے۔                                | اiv ہم ہوا سے کیسے انر جی ہ                                    |
| 4. Write short answers                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                |
| i. State Hook's Law.                              | (0.22-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وابات د شهد                                                                         | 4۔ کوئی سے پانچ اجزام سے محترج<br>ا۔ کب کا قانون بیان سیجتے؟   |
| ii. Differentiate between s                       | train and tensile strain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                |
|                                                   | us and write its mathematical form.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | این طرک(وال علیات<br>مجئه اور اسکی حسابی شکل تکھیے۔                                 | ii۔ سٹرین اور قبیسائل سٹرین<br>بج رو لیسک تعدید سیم            |
| iv. Differentiate between to                      | emperature and heat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | iii۔ ینگو ماڈوٹس کی تعریف سے<br>iv۔ نمیر بیر اور حرارت میں کیا |
| v. Write any two uses of th                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 1 / .                                                          |
| vi. Define conduction and                         | convection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | ∨۔ حرار کی کھیلاؤ کے کولی ہے<br>ا√۔ کنڈ کشن اور کنویکشن کی تع  |
| vii. What is the difference b                     | petween land and sea breezes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | الا کند جی اور کوی جی کام<br>الا کشیم بری اور بحری مین کج      |
| viii. What is Greenhouse E                        | ffect?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | ۱۱۱۰- یم بری اور بری دن بر<br>۱۱۱۱۰- سرین ماؤس المفیکت کیا     |
|                                                   | (Section - II , - (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | ١١١١٠ - حرين و د ل المعيمة ع                                   |
| (Each o                                           | uestion carries Nine (5 + 4 = 9) marks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ر اس کی میں میں اور                             | . )                                                            |
| پیدا سرے گی؟ *                                    | uestion carries Nine (5 + 4 = 9) marks ( يدا كرتى ہے۔ يہ فورى 8 kg كے جم ميں كتا ايكسريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | روا <u>ن کے تو او کے 10 ہوں اور ان کو ایکسلریشن</u><br>مرجم میں 2-10mg کا ایکسلریشن |                                                                |
| 5.(a) A force acting on a body                    | of mass 5kg produces acceleration of 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oms-2 What accelerati                                                               | a) - آیک فورس 5kg ماس                                          |
| force will produce in a bo                        | dy of mass 8kg?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VVII at accelerati                                                                  | on the same                                                    |
| (b) Write down types of motion                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاسمحار                                                                            | (b) موثن کی اتسام تفصیل۔                                       |
| 6.(a) A car weighing 12 KN ha                     | s speed 20ms-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ے بیان کھیے۔<br>ارکی پینہ <sup>1-</sup> 20 <i>ms</i> ہے۔ اس کا کی فا                | (b) مون کی افسام سیل -                                         |
| Find its Kinetic energy                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0. 0. 5- 20ms 250%                                                                  | 12 KN LI (a)_6                                                 |
| (b) How many conditions are                       | needed for a body عنامت کے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بيم مين ہونے كيليج كننى شرائط كى ضرور                                               | 1.16.62 5                                                      |
| to be in equilibrium? E                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | יים ארשים לי אישט ליים                                                              | ט י א צו בעט ד (b)                                             |
|                                                   | ا 10 ہے۔ اس پر کلنے والی 20 کی فرین سے پیدا ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mm tole (inf 2                                                                      |                                                                |
| 7.(a) The head of a pin is a s                    | guara of side 40 mm. 5: 1. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رح کم ہے۔ ان کا ایک ماید اسا                                                        | (a)-7 ایک پن کا بالای سرا مر                                   |

7.(a) The head of a pin is a square of side 10 mm. Find the pressure on it due to a force of 20 N.

specific heat capacity

(b) Define specific heat. Also derive the equation of حرارت مختاص کی تعریف سیجی اور حرارتی مختاک کی مساوات اخذ سیجی (b)

| *      | · /                                                                                                                            |                                            | Roll No                                                                    | SWL                                                             | Annual                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Physi  | cs Jaj                                                                                                                         | I ، كلاس هم )                              | ( IV ) - (سیندری یارث                                                      |                                                                 | - (                                 |
| Paper  | :I (Group:II)                                                                                                                  | 10 May 10 M                                | Session 2018-20                                                            | ) (                                                             | .: I ( دومراگروس                    |
| Marks  | : 12                                                                                                                           |                                            | (معروشی) ctive                                                             | . ·                                                             | 12:                                 |
| Time   | : 15 Minutes                                                                                                                   | Cor                                        | de : 5478                                                                  |                                                                 | : 15 منگ                            |
| 7.0    | زوں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائر ہ کو مارکریا ہیں ت                                                                   | ال کے سامنے دیتے گئے دائر<br>اطالصور ہوگا۔ | D دیئے گئے ہیں۔ جوالی کا لی پر ہرسو<br>پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب فا | مکنه جوابات C, B, A اور ا<br>زیاده دارگروای کورگری فرما کارش کر | نوٹ: ہرسوال کے جاراً<br>دیجئر کی سے |
| Note:- | You have four choices for each objective fill that circle in front of that question nucircles will result in zero mark in that | ve type question<br>umber. Use mar         | as A, B, C and D. Th                                                       | e choice which you                                              | think is correct.                   |
| 1. 1.  | The value of mass of earth is                                                                                                  |                                            |                                                                            | ماس کی قیت ہوتی ہے۔                                             | 1. 1 د دين کے                       |
|        | $6 \times 10^{21} kg$ (D)                                                                                                      | 6×10 <sup>22</sup> kg (C                   | $6 \times 10^{23} kg$                                                      |                                                                 |                                     |
| 2.     | A force of 10 N is making an _bn _                                                                                             |                                            |                                                                            | 1. 1.                                                           | 15050                               |
|        | angle of 30° with the horizontal i                                                                                             |                                            |                                                                            | ,                                                               | 0,210 42                            |
|        |                                                                                                                                | 7 N (C                                     |                                                                            | (B) 4 N                                                         | (4)                                 |
| 3.     | Unit of momentum is                                                                                                            | ,,, (0                                     | , 3 N                                                                      | 1000000                                                         | (A)<br>3 موسینم کا                  |
|        | $Ns^{-1}$ (D) $Ns$                                                                                                             | (0                                         | ) Kgms <sup>-2</sup>                                                       | · ·                                                             | Normal American                     |
| 1      | Co-efficient of friction is equal to                                                                                           | (C                                         | ) Rgms                                                                     | (-)                                                             | (A)                                 |
| ٦.     | R                                                                                                                              |                                            | E v P                                                                      | کو ایفی هنگ برابرہ۔<br>ج                                        |                                     |
| _      | , -,                                                                                                                           | (C)                                        |                                                                            | (B) $\frac{F_s}{R}$                                             |                                     |
| 5.     | The motion of a body about its axis is ca                                                                                      |                                            | -4                                                                         | رے محروجهم کی موش کہلاتی۔<br>یہ                                 |                                     |
|        | rotatory motion                                                                                                                | (B) روثیزی موثن                            | circular motio                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                         | (A)                                 |
|        | random motion                                                                                                                  | (D) رینڈم موثن                             | vibratory mo                                                               | وائبریٹری موشن tion                                             | (C)                                 |
| 6.     | Which of the following is the smallest qu                                                                                      | uantity?                                   | چھوٹی ہے۔                                                                  | ، میں ہے کوئی مقدار سب ہے                                       | 6۔ ورج ذیر                          |
|        | 5000 ng (D) 100                                                                                                                | 0 mg (C)                                   | 2 mg                                                                       | (B) 0.01g                                                       | (A)                                 |
| 7.     | Rooms are heated using gas heaters by                                                                                          | у                                          | رم کے جاتے ہیں بذریعہ                                                      | رز کے استعال سے کرے م                                           | 7- محيس بيا                         |
|        | conduction $\phi$                                                                                                              | (B) کن <sup>و</sup> کش                     | Convection and radiat                                                      | کنویکشن اور ریاریشن ion:                                        | (A)                                 |
|        | convection                                                                                                                     | (D) کنویکشر                                | radiation                                                                  | ریزی ایش                                                        | (C)                                 |
| 8.     | Thermal conductivity of air is                                                                                                 |                                            |                                                                            | فرمل کنڈ کٹیویٹ ہے۔                                             | 8_ ہوا کی ڈ                         |
|        | $0.6Wm^{-1}K^{-1}$ (D) $0.026Wn$                                                                                               | $n^{-1}K^{-1}$ (C)                         | $105Wm^{-1}K^{-1}$ (B                                                      | ) $245Wm^{-1}K^{-1}$                                            | (A)                                 |
| 9.     | Co-efficient of volume expansion of co                                                                                         | pper is                                    | ب ہے۔                                                                      | واليوم ميں پھيلاؤ كا كو الفي هد                                 | 6 26 -9                             |
|        | $3.6 \times 10^{-5} K^{-1}$ (D) $7.2 \times 10^{-5} K^{-1}$                                                                    | ) <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup> (C)        | 6×10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup> (B                                      | $5.1 \times 10^{-5} K^{-1}$                                     | (A)                                 |
| 10.    | Which of the substance is lightest one                                                                                         |                                            |                                                                            | ئے (دھات) سب سے ہلکی ہے                                         | 18.70.00                            |
|        | lead سیسه (D) aluminiu                                                                                                         | (C) الموسلم m                              |                                                                            | CATORY SUSCESS SAME SAME OF SAME OF                             |                                     |
| 11.    | Rate of doing work is called                                                                                                   | L & S                                      | , , ,                                                                      | رنے کی شرح کوکھتے ہیں۔                                          |                                     |
|        |                                                                                                                                | ower 🧀 (C)                                 | torque کرک (                                                               |                                                                 |                                     |
| 12.    | The S.I unit of work is                                                                                                        | • (-)                                      | , (                                                                        | رون ووادادا وی<br>ا.S یونٹ ہے۔                                  |                                     |
|        | Pascal المكل (D) Watt                                                                                                          |                                            | م حا ایروا                                                                 | Ø <b>•</b> 0 0€0000                                             |                                     |

14 - 119 - 38500